



## میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ کی بیویوں کا مہر کتنا ہوتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اپنی بیویوں کے لیے آپ کا مہر بارہ اوقیہ اور ایک نش تھا

ابوسلم بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی اُمّ المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: رسول اللہ کی بیویوں کا مہر کتنا ہوتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: اپنی بیویوں کے لیے آپ کا مہر بارہ اوقیہ اور ایک نش تھا پھر انہوں نے پوچھا: جانتے ہو نش کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا: آدھا اوقیہ، باہن ہر ہر 500 درہم بنتے ہیں اور یہی اپنی بیویوں کے لیے رسول اللہ کا مہر تھا

[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے]

حدیث کا موضوع حق مہر میں تخفیف کا استحباب ہے حق مہر اگرچہ مشروع ہے لیکن بہترین حق مہر وہی ہے جس کی ادائیگی آسان ہو اور وہ عورتیں بھی بہترین ہیں جو تھوڑے حق مہر پر رضا مند ہو جاتی ہیں اس حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم نے اپنی بیویوں کو زیادہ سے زیادہ ساڑھے بارہ اوقیہ حق مہر دیا ہے رسول اللہ عادات و عبادات میں کامل نمونہ ہیں ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے، اس حساب سے یہ ساڑھے پانچ سو درہم بنتے ہیں یہ آج کے لوگوں کے بالکل برعکس ہے جو لمبے چوڑے حق مہر باندھتے ہیں اور عورت نیز اس کے ورثاء کو جو مال و دولت دیتے ہیں اس پر فخر کرتے ہیں، خواہ خاوند غریب ہو یا امیر وہ یہی چاہتا ہے کہ اس معاملہ میں وہ کسی سے پیچھے نہ رہے اور یہی شادی میں تاخیر کا سبب بن جاتا ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/58103>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

